

بنیادی مینو - اپریل - اکتوبر 2018

جمعہ	جمعرات	بدھ	منگل	پیر	
بیگ کی ہوئی فش فنگرز اور ٹماٹو کیچپ چیس	میٹھی چلی والی مرغابی چاول	باربی کیو چکن فیلائٹ اوون میں بیگ کیے ہوئے کٹے ہوئے جڑی بوٹیوں والے آلو	روسٹ کیا ہوا بیف اور یورکشائر پڈنگ	بیگ شدہ ساسیج رول ٹماٹو ریش میٹھ کیے ہوئے آلو	ہفتہ 1 اپریل 16 مئی 7 جون 4
سبزی کا لزانیا ادرک والی بریڈ	سبزی کے ساسیجز اور گریوی میٹھ کیے ہوئے آلو	پیزا	قورن نگٹس (سبزی کے)	شکر قندی اور دال کی کڑی نان بریڈ چاول	جون 25 جولائی 16 ستمبر 17 اکتوبر 8
بیگ کیے ہوئے بین مٹر	بروکولی پھول گوبھی	میٹھی مکئی مٹر	روسٹ کیے ہوئے آلو گوبھی، گاجر اور پھول گوبھی کا مکس گریوی	میٹھی مکئی سبز بین	
لیموں کا مفن	جیلی، اینجل ڈیلائٹ، دبی، تازہ پھل	پھل کا فلیپ جاک	چھوٹے بسکٹ اور پھل کے تکون	انس کریم، سموڈیز، سیب کی لولی	
بیٹڈ مچھلی اور ٹماٹو کیچپ چیس	بیگ کیے ہوئے چکن، سبزی اور آلو	سبزی کا ٹیگائن جیول والا کؤس کؤس	روسٹ کیا ہوا چکن اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو	بیف بولوگنیس پاستا بیگ ادرک والی بریڈ کے فنگر	ہفتہ 2 اپریل 23 مئی 14 جون 11 جولائی 2 ستمبر 3 ستمبر 24 اکتوبر 15
ٹماٹو ڈریسنگ اور مکس سلاد کے ساتھ فالافل ریپ	اتالوی ٹماٹو پاستا ادرک والی بریڈ کے فنگر	پیزا	بیگ کی ہوئی گوبھی اور پھول گوبھی ٹماٹو بریڈ کول سلا	سبزی کا پف میٹھ کیے ہوئے آلو	
مٹر مکس مرچوں کے ساتھ میٹھی مکئی	گوبھی بیٹن گاجرین	سبز بین میٹھی مکئی	کٹی ہوئی گاجرین سبز بین	سبزیوں کی تگڑی بیگ کیے ہوئے بین	
چاکلیٹ جو کی کوکی	جیلی، اینجل ڈیلائٹ، دبی، تازہ پھل	گاجر کا کیک	چھوٹے بسکٹ اور پھل کے تکون	انس کریم، سموڈیز، سیب کی لولی	
بیگ کی ہوئی فش فنگرز اور ٹماٹو کیچپ چیس	بیگ کیے ہوئے سؤر کے ساسیجز آلو کے تکون	ٹینگی چکن کڑی نان بریڈ چاول	روسٹ کیا ہوا سؤر اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو	بیل سلیمون دن کے آلو	ہفتہ 3 اپریل 30 مئی 21 جون 18
لال دال کا فلان نئے آلو	پاستا کے ساتھ ٹماٹر کی چٹی میں سبزی کے کوفتے ادرک والی بریڈ کے فنگر	پیزا کول سلا	قورن ٹماٹو پاستا بیگ	میکرونی پنیر ادرک والی بریڈ کے فنگر	جولائی 9 ستمبر 10 اکتوبر 1
بیگ کیے ہوئے بین مٹر	گوبھی گاجرین	سبز بین کٹی ہوئی گاجر	گوبھی، گاجر اور پھول گوبھی کا مکس	مٹر	
پنیر اور سیب کا تکون	جیلی، اینجل ڈیلائٹ، دبی، تازہ پھل	براؤنی	چھوٹے بسکٹ اور پھل کے تکون	انس کریم، سموڈیز، سیب کی لولی	

اضافی بریڈ اور موسمی سلاد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے

تازہ پھل، فروٹی پائس، نامیاتی دبی، چاول کے پائس، پنیر اور بسکٹس روزانہ دستیاب ہوتے ہیں